

جامعۃ المدینہ فیضانِ مدینہ کاہنہ نو لاہور

خصوصی کاوش

درجہ : رابعہ الف

سوال نمبر 1 : علم تفسیر کی تعریف اور موضوع بیان کریں؟

جواب : علم تفسیر کی تعریف : وہ علم ہے جس میں قرآن مجید کے احوال کے بارے میں بحث کی جاتی ہے  
موضوع کی تعریف : قرآن مجید

سوال نمبر 2 : علم تفسیر کا استمداد اور علم تفسیر کن علوم میں سے ہے؟

جواب : استمداد قرآن مجید ، سنت ، عربی ادب ، یہ دینی علوم میں سے ہیں

سوال نمبر 3 : قرآن کی لغوی اور اصطلاحی تعریف لکھیں اس تعریف کے فوائد و قیودات بیان کریں؟

جواب : لغوی معنی ، جمع کرنا

اصطلاحی تعریف : اس سے مراد وہ کلام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا

( هو الکلام المنزل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المعجز )

(فوائد و قیودات) : الکلام (جنس ہے جس میں تمام کلام شامل ہوگئے المنزل (کہنے سے غیر آسمانی کتابیں خارج ہوگئی

(علی سیدنا) کا ذکر بطور فصل ہے یہ کہنے سے دیگر آسمانی کتابیں نکل گئی (المعجز) (دوسری فصل ہے جس کے ذریعے حدیث قدسیہ نکل گئی

**سوال نمبر 4: مکی مدنی کے بارے میں کتنی اصطلاحات ہیں اور کون سی ہیں؟**

**جواب:** مکی مدنی کی تین اصطلاحات ہیں۔

مکی سے مراد وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی

مدنی سے مراد وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی

(دوسری اصطلاح) (مکی) (وہ جو مکہ میں نازل ہوئی خواہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی) (مدنی) (وہ جو مدینہ میں نازل ہوئی اس صورت میں جو سفر میں نازل ہوئی اس پر نہ مدنی و مکی کا اطلاق ہوگا

(تیسری اصطلاح): (مکی) (سے مراد اہل مکہ کو خطاب کیا گیا) (مدنی) (سے مراد اہل مدینہ کو خطاب کیا گیا

**سوال نمبر 5: مکی مدنی کی کچھ نہ کچھ علامتیں ذکر کریں؟**

**جواب:** علامتیں: وہ سورت جس میں (یا ایہا الذین) (کہہ کر خطاب کیا ہو اور) (یا ایہا الذین آمنوا) (کہہ کر خطاب نہ کیا ہو تو وہ مکی ہے) (جس میں لفظ) (کلا) (استعمال ہوا وہ مکی ہوگی) (جس میں آدم علیہ الصلاة والسلام کا ذکر اور ابلیس کا واقعہ ہو وہ مکی ہوگی) (جس میں منافقین کا ذکر ہو وہ مدنی ہوگی) (جس میں عروہ بن زبیر کا قول جس میں حدود و فرائض کا ذکر ہو وہ مدنی ہوگی) (جس میں گزرائے ہوئے زمانے کا ذکر ہو وہ مکی ہوگی

**سوال نمبر 6: مکی اور مدنی سورتیں کتنی ہیں زبدة الاتقان کی روشنی میں تحریر کریں؟**

جواب :مدنی سورتیں (29 ہیں اور مکی سورتیں) 85 (ہیں

سوال نمبر 7:حضری اور سفری سورۃ کونسی ہوتی ہے اور سفری کی کوئی سی دو مثالیں تحریر کریں؟

جواب :مقیم ہونے کی حالت میں نازل ہوئی وہ (حضری ہے

جو سفر کے دوران نازل ہو وہ (سفری ہے مثالیں ):1 (یاہا الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة) 2 (سورۃ فتح

سوال نمبر 8 :حضری اور سفری کے باعتبار زمان کی اقسام میں سے صیغی اور شتائی کی مثال ذکر کریں؟

جواب :صیغی (يستفتونك قل لله يفتيكم في الكلثة)

شتائی (ان الذين جاءوا بالافك)

سوال نمبر 9 :سب سے پہلے کونسی سورت نازل ہوئی اسکے بارے میں کتنے اقوال ہیں تحریر کریں؟

جواب :اس کے بارے میں چار اقوال ہیں۔

(اقراء باسم ربك الذي خلق (يه صحيح قول ہے(1)

(يايها المدثر (يه سورت سب سے پہلے نازل ہوئی(2 )

(سورہ فاتحہ (نازل ہوئی(3)

(تسمیہ (نازل ہوئی(4)

سوال نمبر 10 :حدیث جابر کے بارے میں علماء نے کیا جواب دیا تحریر کریں؟

جواب :حدیث جابر رضی اللہ عنہ میں اولیت سے مراد مخصوص اولیت ہے وہ ڈرانے کے حکم سے متعلق اولیت ہے یعنی رسالت کے حوالے

سے جو حکم نازل ہوا وہ یہ ہے (یاہیہا المدثر) اور نبوت کے حوالے کلام (اقراء باسم ربک الذی خلق) (اصح۔ 2) (بعض حضرات نے یہ جواب دیا کہ جابر کی مراد سورہ مدثر مکمل نازل ہونے والی سورتوں میں سب سے پہلے ہے بعض حضرات نے جواب دیا کہ حضرت جابر نے اپنے ذاتی اجتہاد کے ذریعے استخراج کی تھی انہوں نے اس حوالے سے کوئی روایت کو اس پر تقدیم حاصل ہوگی جو حضرت عائشہ سے منقول ہے۔

**سوال نمبر 11: اوائل مخصوصہ کی کوئی سی دو مثالیں تحریر کریں؟**

(جواب: 1) (یسئلونک عن الخمر والمیسر)

(اقراء باسم ربک الذی خلق) (2)

**سوال نمبر 12: آخر ما نزل (کی کوئی سی دو مثالیں تحریر کریں؟**

(جواب: 1) (یستفتونک قل لله یفتیکم فی الکلتہ)

(یاہیہا الذین آمنوا تقواللہ وذرو ما بقی من الربوا) (2)

**سوال نمبر 13: آخر ما نزل (کے بارے میں امام سیوطی نے جو اقوال کئے تحریر کریں؟**

(جواب: 1) (اس کے آخر میں سورہ نصر نازل ہوئی)

(لقد جاءکم رسول من انفسکم) (2)

(سورہ توبہ سب سے آخر میں نازل ہوئی) (3)

(سورہ مائدہ) (4)

**سوال نمبر 14: نزول قرآن کی کتنی اور کون سی اقسام ہے تحریر کریں؟**

جواب : نزول قرآن کی دو قسمیں ہیں

(ابتدائی) (1) جو کسی مخصوص واقعہ اور سوال کے پس منظر کے بغیر نازل ہوئی ہو

(جو کسی واقعہ یا سوال کے ذریعے نازل ہوئی ہو) (2)

سوال نمبر 15 : حکم شرعی پر مشتمل آیت کا سبب نزول معلوم ہوتو اس کی کتنی اور کونسی صورتیں ہے تحریر کریں؟

جواب : حکم شرعی پر مشتمل آیت کا سبب نزول معلوم ہوتو اس کی دو صورتیں ہیں

(عموم) (2) (خصوص) (1)

سوال نمبر 16 : سلفین سے نزول قرآن کے بارے میں پوچھنے پر آپکا کیا طرز عمل رہا ہے؟

جواب : محمد بن سرین بیان کرتے ہیں میں نے عبیدہ سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور حدیث بیان کرو

وہ لوگ رخصت ہو گئے جو اس بات کا علم رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے کس بارے میں قرآن نازل کیا۔

سوال نمبر 17 : ایک آیت ہو اور اسباب متعدد ہوں اسکی مثالیں دیں؟

جواب: (1) (نساؤکم حرث لکم)

(والضحی والی اذا سجد) (2)

(وان عاقبتہم فعاقبوا بمثل ما عاقبتہم بہ) (3)

سوال نمبر 18 : سبب ایک ہو آیات متفرق ہوں اسکی مثالیں لکھیں؟

(جواب:1)(فاستجاب لهم ربهم)

(ان المسلمين والمسلمات)(2)

(انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى)(3)

**سوال نمبر 19: حضرت عمر نے اپنے رب سے کتنی باتوں میں موافقت کی زبدةالاتقان کی روشنی میں تحریر کریں؟**

**جواب:** حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں 3 معاملات میں میری رائے میرے رب کے موافق ہے

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ (1) وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مقام ابراہیم کو نماز کی مخصوص جگہ بنائے تو مناسب ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی (واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ)

حضرت عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی با (2) مینرگاہ میں عرض کی آپ کے گھر میں نیک اور گنہگار لوگ آتے ہیں اگر آپ اپنی ازواج کو پردہ کرنے کا حکم دیں تو بہتر ہے اسی وقت آیت نازل ہوگی (-)3 (ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے ناراضگی کا اظہار کیا تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایسا نہ ہو حض، ححور آپ کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر ہے عورتوں سے نکاح کا حکم فرما دیں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں انہیں الفاظ کے ساتھ قرآن میں آیت نازل ہوئی

**سوال نمبر 20: تقرار نزول کی چند صورتیں یعنی وجہیں ذکر کریں؟**

(جواب:1)(وعظ ونصیحت کرنا)(2)(سورت و حال کا تقاضا)(3)(نازل شدہ آیت میں موجود اضافی فضیلت کا اظہار کرنا)(4)(کوئی آیت پہلے

کسی اور قرات کے بارے میں نازل ہوئی ہو بعد میں کسی اور قرات  
( کے بارے میں نازل ہوئی ہو

**سوال نمبر 21: حضرت انس کے بارے امام رازی اور امام قرطبی کے  
اقوال تحریر کریں؟**

جواب: امام رازی فرماتے ہیں حضرت انس کا یہ فرمانا ان چار کے  
علاوہ کسی نے جمع نہیں کیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے  
علاوہ کسی اور کو یاد نہیں تھا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان چار کے  
علاوہ کسی اور کا علم نہ ہو اس نے بھی قرآن کو جمع کیا ہے یہ بات  
اس وقت ثابت ہوسکتی ہے جب حضرت انس نے ہر صحابی سے فردا  
فردا ملاقات کی ہو امام قرطبی فرماتے ہیں

حضرت انس نے ان چار کا ذکر بطور خاص اس لئے کیا ہے کیونکہ  
باقی حضرات کے مقابلے میں ان کا تعلق اس کام سے زیادہ مضبوط  
تھا یا اس وقت حضرت انس کے ذہن میں انہیں حضرات کا خیال ہو ان  
کے علاوہ کسی کا خیال نہ ہو

**سوال نمبر 22: حدیث انس کے بارے میں قاضی ابو بکر باقلانی کے  
کوئی سے چار اقوال بیان کریں؟**

جواب: اسکا مفہوم نہیں ہے اس لئے اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ  
ان حضرات کے علاوہ کسی اور نہ قرآن کو جمع نہیں کیا۔ (2) (اس  
سے مراد یہ ہے کہ

تمام پہلوں اور قراتوں کے حوالے سے صرف انہیں حضرات نے قرآن  
کو جمع کیا ہے۔

تلاوت کے بعد جو حصہ منسوخ ہو گیا یا جو نہیں ہوا ان سب کو (3)  
صرف انہیں حضرات نے جمع کیا ہے۔

یہاں جمع کرنے سے مراد کتابت ہے تو اس لئے بات کی نفی (4) نہیں کرتا تو ان حضرات کے علاوہ دیگر لوگوں نے اسے حفظ کر کے جمع نہ کیا۔

### سوال نمبر 23

جنگ یمامہ اور حضور کے زمانہ میں بیر معونہ کے موقع پر کتنے قاری شہید ہوئے؟

### جواب نمبر 23

بیر معونہ کے موقع پر 70 قاری شہید ہوئے

### سوال نمبر 24

قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج والے آپس میں کیا فخر کرتے تھے

### جواب نمبر 24

قبیلہ اوس والوں نے کہا ہم میں 4 افراد ایسے ہیں جنہیں نمایاں : 1 خصوصیت حاصل ہے ہم میں وہ صاحب ہیں جن کے لئے عرش جہوم اٹھا تھا اور وہ صاحب ہیں جن کی اکیلے کی گواہی کو دو افراد کی گواہی کے برابر قرار دیا گیا اور وہ صاحب ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا

قبیلہ خزرج والوں نے کہا کہ ہم میں 4 صاحب ایسے ہیں جنہوں: 2  
نے پورا قرآن جمع کی . سوال 25

ابو عبید کی کتاب القرات کے مطابق حضور کے اصحاب میں سے کوئی سے 5 قاریوں کے نام تحریر کریں؟

### جواب نمبر 25



چارو خلفاء 2 حضرت طلحہ 3 حضرت سعد 4 حضرت عبداللہ بن 1  
مسعود 5 حضرت حذیفہ

### سوال نمبر 26

صحابہ میں سے قرآن پڑھانے والے قاریوں میں سے 3 کے نام تحریر  
کریں

### جواب نمبر 26

حضرت زید بن ثابت 2 حضرت عثمان غنی 3 حضرت ابی بن کعب 1

### سوال 27

قراء مکہ اور کوفہ کے کچھ نہ کچھ قاریوں کے نام تحریر کریں

### جواب 27

قراء مکہ 1 عبید بن عمیر 2 عطاء بن ابی رباح 3 طاؤس

قرء قوفہ 1 علقمہ 2 اسود 3 مسروق 4 عبیدہ

### سوال 28

قرآت سبعہ کے طریقوں میں ہر ایک طریقہ دو دو راویوں کے ساتھ  
تحریر کریں؟

### جواب نمبر 28

نافع سے قالون اور ورش نے روایت کی ہے

ابن کثیر سے کنبل اور بذی نے روایت کی

ابو عمر سے دوری اور سوسوی نے روایت کی 3

ابنِ عامر سے حشام اور ابن زکوان نے روایت کی 4  
عاصم سے ابوبکر بن عیاش اور حفص نے روایت کی 5  
ہمزہ سے خلف اور خلاد نے روایت کی 6  
کسائی سے دوری اور ابو حارث نے روایت کی 7

## سوال 29

قرآت کی کتنی اور کونسی اقسام ہیں تعریفوں کے ساتھ بیان کریں؟

جواب نمبر 29

اقسام ہیں 6

متواتر: جس کو راویوں کی اتنی تعداد نے نقل کیا ہو جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو

مشہور: جس کی سند صحیح ہو لیکن وہ متواتر کے درجے کو نہ پہنچی ہو

احاد: جس کی سند صحیح ہو لیکن وہ رسم الخط عربیت کے خلاف ہو :

شاذ جس کی سند صحیح نہ ہو:

موضوع: خزاعی کی قراءتیں

مدرج قرآت کے درمیان تفسیر کے طور پر کسی لفظ کا اضافہ کرنا :

## سوال 30

ابنِ جزری نے قرآت کے صحیح اور مقبول ہونے کے لیے کتنی اور کونسی شرطیں بیان کیں؟

جواب نمبر 30

عربیت کے ساتھ موافقت رکھتی ہو :

مصاحف عثمانیہ میں سے کسی ایک کے ساتھ موافقت رکھتی ہو :

اسکی سند صحیح ہو :

**سوال 31 :**

**ولو بوجہ کی قید لگانے کی وضاحت کریں؟**

جواب

ولو بوجہ اس کے ذریعہ ہماری مراد یہ ہے کہ وہ علم نحو کے مختلف پہلو میں سے کسی ایک پہلو کے اعتبار سے ہو برابر ہے کہ وہ افصح سمجھی جاتی ہو یا فصیح.... یا اس کے بارے میں اختلاف یا اتفاق پایا.. جاتا ہو

**سوال 32 :**

**حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں منقول (فاتحہ اور معوذتین) کا انکار اس کے بارے میں 2 آئمہ کے قول بیان کریں؟**

جواب پہلا قول

امام نووی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے جو روایت نقل کی گئی ہے وہ باطل ہے صحیح نہیں ہے

دوسرا قول

امام ابن قطیبہ نے اپنی کتاب (مشکل القرآن) میں یہ بات بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سمجھتے تھے کہ معوذتین قرآن کا حصہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا تھا کہ آپ امام

حسن و حسین کو یہ دونوں سورتیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے تو ابن  
..مسعود اپنے اسی گمان پر قائم رہے

سوال 33 :

جو قرأت قرأت سبعہ سے خارج ہو لیکن رسم الخط کے موافق ہو اس کا  
کیا حکم ہے ؟

جواب.

اس کا حکم ممنوع ہے

سوال 34

کیا قرأت کے اختلاف کی وجہ سے احکام بھی بدل جاتے ہیں مثال دے  
کر واضح کریں؟

جواب.

لمستم ,ولا مستم اس کے اندر جب قرأت مختلف ہو تو اس کا حکم بھی  
مختلف ہو گیا یعنی لمستم کہنے سے وضو ٹوٹ جائے گا لا مستم کہنے  
..سے وضو نہیں ٹوٹے گا

سوال 35 :

قرآن کے تحمل کی کتنی اور کونسی صورتیں ہیں تحریر کریں؟

جواب.

صورتیں ہیں 2

1. استاذ کے سامنے قرأت کرنا

2. یا اس کے الفاظ کو سن لینا

## سوال 36

قرأت کے کتنے اور کونسے طریقے ہیں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کریں؟

جواب. قرأت کے 3 طریقے ہیں

: تحقیق 1

ہر حرف کو اس کا مخصوص حق دینا جیسے مد کو لمبا کرنا اور ہمزہ کو حقیقی مخرج کے ساتھ ادا کرنا

: حضر 2

قرأت کو ملا کر تیزی اور اختصار کے ساتھ پڑھنا حرکت کو اچک لینا۔ ہمزہ کی تخفیف اور ادغام وغیرہ

: تدویر 3

تحقیق اور حضر کے دو مقامات کا درمیانی طریقہ ہے مد منفصل کو اشباع کی حد تک نہ کھینچنا

## سوال 37 :

قرأت کو جمع کر کے اکٹھا پڑھنے کے بارے میں قاریوں کے کتنے اور کون سے طریقے ہیں؟

جواب 2. طریقے ہیں

پہلا موقف حروف کو جمع کیا جائے آدمی تلاوت شروع کرے جب وہ کوئی ایسا کلمہ پڑھے جس کی ادائیگی میں اختلاف پایا جاتا ہو صرف اس ایک لفظ کو دہرائے اور اس میں تمام طرح کی قرأت کی ادائیگی کرے پھر اس پر وقف کیا جا سکے تو کرے وگرنہ ملا کر پڑھے

مؤقف .وقف کے ساتھ جمع کرے یعنی پہلے شروع سے قرأت کر کے 2  
وقف کے مقام تک پڑھے اسی طرح ساری قرأتوں کی ادائیگی کرے

سوال 38 :

قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کے بارے میں وضاحت کریں ؟

جواب .تجوید قرأت کا زیور ہے تجوید سے مراد حروف کو انکے حقوق  
اور ترتیب دینا ہے اور حروف کو انکے مخارج اور اصل کی طرف لوٹانا  
ہے اور ہر حرف کو بغیر تکلیف کے ادا کرے

حضور صلی اللہ علیہ والہ و سلم نے اپنے فرمان میں اسی بات کی طرف  
اشارہ کیا ہے جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ قرآن کو بالکل اسی طرح  
تلاوت کرے جیسے نازل ہوا ہے اسے ابن ام عبد کی قرأت کے مطابق  
پڑھے

سوال 39 :

قرأت کو جمع کرنے کے بارے میں قاریوں کیلئے کتنی اور کونسی  
شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ؟

جواب 5 شرائط ہیں 1 وقف میں عمدگی ہو 2 آغاز کرنے میں عمدگی ہو  
ادائیگی میں عمدگی ہو 4 مختلف قرأتوں کو ایک دوسرے میں خلط 3  
ملط نہ کر دے 5 تلاوت کرنے میں ترتیب کا خیال رکھے

سوال 40 :

قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں اسلاف کا کیا معمول رہا؟

جواب .بعض حضرات ایک دن اور ایک رات میں تین مرتبہ مکمل قرآن  
ختم کرتے تھے بعض حضرات دو مرتبہ بعض حضرات ایک مرتبہ ختم  
کرتے تھے

### سوال 41 :

قرآن کو ایک دن میں 3 بار ختم کرنے کے بارے میں حضرت عائشہ کا مذمت والا قول ذکر کریں ؟

جواب . وہ لوگ پڑھے یا نہ پڑھے دونوں صورتوں میں برابر ہے یہ حضرت عائشہ کا قول ہے

سوال 42 قرآن پاک ختم کرنے کے بارے میں امام اعظم کا قول ذکر کریں ؟

جواب . جس نے قرآن ہر سال میں دو مرتبہ پڑھا اس نے قرآن کا حق ادا کر دیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل پر جس سال میں آپ کا وصال ہوا اس سال دو مرتبہ قرآن پڑھا

### سوال 43

قرآن کو پڑھے کے کوئی سے 3 ادب تحریر کریں؟

جواب 1. وضو کرنا مستحب ہے

صاف ستھری جگہ اور قبلہ کی طرف منہ کرنا 3 مسواک کرنا 2

سوال 44 اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم کے بارے میں سلفین کے دو : قول ذکر کریں؟

جواب 1. امام نووی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم

حمید بن قیس فرماتے ہیں اعوذ باللہ القادر من الشیطن الغادر 2